

آيَاتُهَا ۲۲ (۵۸) سُورَةُ الْمَجَادِلَةِ مَكِّيَّةٌ (۱۰۵) رُكُوعَاتُهَا ۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي

یقیناً سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو

تَجَادَلَكِ فِي زَوْجِهَا

بھگڑ رہی تھی تم سے اپنے شوہر کے بارے میں

وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ

اور فریاد کیے جا رہی تھی اللہ سے اور اللہ سن رہا تھا

تَحَاوَرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ

تم دونوں کی گفتگو۔ بلاشبہ اللہ ہے

سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۱﴾

ہر بات سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ﴿۱﴾

الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاءِ بِهِمْ

جو لوگ ظہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ،

مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۚ إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ

نہیں ہو جاتیں ان کی بیویاں ان کی مائیں۔ نہیں ہیں ان کی مائیں

إِلَّا الْآبَاءُ وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ

مگر وہی جنہوں نے جنا ہے انہیں اور بلاشبہ وہ کہہ رہے ہیں

مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ

ایک سخت ناپسندیدہ جھوٹی بات۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿۲﴾

اور یقیناً اللہ ہے بڑا معاف کرنے والا اور بہت درگزر فرمانے والا ﴿۲﴾

وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ

اور وہ لوگ جو ظہار کریں اپنی بیویوں سے

ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا

پھر رجوع کریں اس (بات) سے جو انہوں نے کہی تھی

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ

تو اس پر آزاد کرنا ہے ایک غلام، اس سے پہلے

أَنْ يَتَمَاتَا ۚ ذَلِكُمْ

کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ ہے

تَوَعُّطُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا

وہ نسیحت جو تمہیں کی جا رہی ہے۔ اور اللہ ان اعمال سے جو

تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ۝۳

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ

أَنْ يَتِمَّ سَاءَ فَمَنْ

لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ

مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۝ وَتِلْكَ حُدُودُ

اللَّهِ ۝ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۴

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ

اللَّهِ وَرَسُولَهُ كَبِتُوا

كَمَا كَبَتَ الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِهِمْ ۝ وَقَدْ أَنْزَلْنَا

آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۝ وَلِلْكَافِرِينَ

عَذَابٌ مُهِينٌ ۝۵

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ

اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۝

أَحْصَاهُ اللَّهُ

وَأَسْوَأُهُ ۝ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۶

الْمُرْتَانَ ۝ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا

تم کرتے ہو پوری طرح بانجبر ہے ۝۳

پھر اگر کوئی نہ پائے (غلام) تو اس پر روزے رکھنا ہے

دو مہینے کے لگاتار، اس سے پہلے

کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پھر جو شخص

نطاقت رکھتا ہو (روزوں کی) تو اس پر کھانا کھلانا ہے ساٹھ

مسیکینوں کو۔ یہ اس لیے کہ راسخ ہو تمہارا ایمان

اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اور یہ حدیں ہیں (مقرر کردہ)

اللہ کی اور نہ ماننے والوں کے لیے ہے دروناک عذاب ۝۴

بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں

اللہ اور اس کے رسول کی وہ ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے

اسی طرح جیسے ذلیل و خوار کر دیا گیا تھا ان کو جو

ان سے پہلے تھے اور نازل کر دیے ہیں ہم نے

صاف اور صریح احکام۔ اور نہ ماننے والوں کے لیے ہے

عذاب، ذلیل و خوار کرنے والا ۝۵

یاد رکھو اس دن کو جب پھر سے زندہ کرے گا ان کو

اللہ سب کو پھر نہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔

گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے ان کا سب کیا دھرا اللہ نے

اور وہ اسے بھول گئے ہیں۔ جبکہ اللہ ہر چیز پر شاہد ہے ۝۶

کیا تم کو خبر نہیں کہ اللہ جانتا ہے ہر وہ بات جو

فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ

إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ

إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ

وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا،

ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا

عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهَوْنَا

عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ

لِمَا نَهَوْنَا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ

بِأَلْسِنِهِمْ وَالْعُدْوَانَ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ

وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ

بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ

وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا

اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُكُمْ جَهَنَّمُ

يَصَلُّونَهَا، فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ

فَلَا تَتَنَاجَوْا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَالْعُدْوَانَ

آسمانوں میں ہے اور وہ بھی جو زمین میں ہے۔

اور نہیں ہوتی کوئی سرگوشی تین آدمیوں میں

مگر ہوتا ہے اللہ ان میں چوتھا اور نہ پانچ میں

مگر ہوتا ہے وہ ان میں چھٹا اور نہ اس سے کم میں

اور نہ زیادہ میں مگر ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ جہاں بھی وہ ہوں۔

پھر وہ بتائے گا انہیں اس کے بارے میں جو

وہ کرتے رہے۔ قیامت کے دن۔ بلاشبہ اللہ

ہر چیز کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے ۝

کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہیں منع کیا گیا تھا

سرگوشیاں کرنے سے پھر بھی وہ دہراتے رہے

اسی بات کو جس سے منع کیا گیا تھا انہیں اور سرگوشیاں کتے ہیں

گناہ کے اور زیادتی کے کاموں کی اور رسول کی نافرمانی کی۔

اور جب آتے ہیں تمہارے پاس تو سلام کرتے ہیں تمہیں

ایسے طریقے سے کہ نہیں سلام بھیجا تم پر اس طرح اللہ نے

اور کہتے ہیں اپنے دلوں میں: کیوں نہیں عذاب دیتا، ہمیں

اللہ ان (باتوں) پر جو ہم کہتے ہیں؟ کافی ہے ان کے لیے جہنم،

وہ اسی میں جلیں گے سو ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانا ۝

اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم چھپ کر مشورے کرو آپس میں

تو نہ مشورے کرو گناہ، زیادتی

وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا
بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ⑩
إِنَّمَا التَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ
لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑩
يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ
تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ
النشُورُوا فَانشُرُوا يُرْفِعِ اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۗ وَالَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۖ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑩

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ
الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ
صَدَقَةٌ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَظْهَرُ
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا

اور رسول کی نافرمانی کی باتوں کے بلکہ مشورے کرو
نیکی اور تقویٰ کی باتوں میں۔ اور ڈرو اللہ سے
جس کے حضور تم حشر میں پیش کیے جاؤ گے ⑩
حقیقت یہ ہے کہ چھپ کر مشورے کرنا شیطان کا کام ہے
اور اس لیے کہ جلتے ہیں کہ رنجیدہ ہوں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں
اور نہیں ہیں یہ نقصان پہنچانے والے انہیں ذرا بھی
مگر اللہ کے اذن سے۔

اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے ⑩
اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب کہا جائے تم سے
کہ کثادگی پیدا کرو مجالس میں تو جگڑے دیا کرو دوسروں کو،
کثادگی بخشنے گا اللہ تمہیں اور جب کہا جائے
کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ بلند کرتا ہے اللہ
ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں تم میں سے۔ اور ان کو جنہیں
دیا گیا ہے علم، درجوں کے اعتبار سے۔ اور اللہ
ان سب اعمال سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے ⑩
اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب علمدگی میں بات کرنا چاہو تم
رسول سے تو پیش کر دو تم علمدگی میں بات کرنے سے پہلے
کچھ صدقہ۔ یہ طریقہ ہے بہتر تمہارے لیے اور پاکیزہ تر بھی۔
پھر اگر نہ پاؤ تم (صدقہ دینے کے لیے کچھ)

قَانَ اللَّهُ غُفُورٌ رَحِيمٌ ۱۲

ءَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا

بَيْنَ يَدَي نَجْوِكُمْ صَدَقْتِ ط

فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ط

وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۱۳

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا

قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ط

مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۲

وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۱۴

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا

إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۱۵

إِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَكَفَّهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۱۶

لَنْ نَغْنِيَّ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ

وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ط

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۱۷

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ

تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے ۱۲

کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ پیش کرو

اپنی عہدگی کی گفتگو سے پہلے صدقات؟

پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور معاف بھی کر دیا ہے تمہیں اللہ نے

تو قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ

اور فرمانبرداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔

اور اللہ پوری طرح باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو ۱۳

کیا نہیں دیکھا تم نے ان کو جنہوں نے دوست بنایا

ایسے لوگوں کو جن سے اللہ ناراض ہے۔

نہیں ہیں وہ تم میں سے اور نہ ان میں سے

اور تمہیں کھاتے ہیں جھوٹ پر جانتے بوجھتے ۱۴

مہیا کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب۔

یقیناً بہت ہی برے ہیں وہ کام جو وہ کرتے ہیں ۱۵

بنارکھا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال اور اس طرح بولتے ہیں وہ

اللہ کی راہ سے اور ہے ان کے لیے ذلت کا عذاب ۱۶

ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال

اور نہ ان کی اولاد اللہ سے ذرا بھی،

یہ جہنمی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے ۱۷

جس دن دوبارہ اٹھائے گا اللہ ان سب کو تو تمہیں کھائیں گے

لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ

وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ

إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿۱۸﴾

إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ

ذَكَرَ اللَّهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۗ أَلَا

إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۱۹﴾

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿۲۰﴾

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۗ

إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۲۱﴾

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ

أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ كَتَبَ

فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ

مِّنْهُ ۗ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۗ

أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۲۲﴾

اس کے حضور اسی طرح جیسے قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے

اور سمجھیں گے کہ اس طرح کچھ کام بن جائے گا۔

خوب جان رکھو یہی ہیں وہ جو پرے درجے کے جھوٹے ہیں ﴿۱۸﴾

مسلط ہو چکا ہے ان پر شیطان اور بھلا دی ہے اس نے انہیں

اللہ کی یاد۔ یہی لوگ شیطان کی پارٹی ہیں۔ جان رکھو

کہ شیطان کا گروہ ہی خسارے میں رہنے والا ہے ﴿۱۹﴾

یقیناً وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی،

وہی سب سے ذلیل مخلوق ہیں ﴿۲۰﴾

لکھ دیا ہے اللہ نے کہ ضرور غالب آکر رہوں گا میں اور میرے رسول۔

بلاشبہ اللہ نور آور اور زبردست ہے ﴿۲۱﴾

نہ پائو گے تم ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روزِ آخرت پر

کہ وہ محبت رکھتے ہوں ان سے جنہوں نے مخالفت کی اللہ کی

اور اس کے رسول کی اگرچہ ہوں وہ ان کے باپ یا بیٹے

یا بھائی یا اہلِ خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ثبت کر دیا ہے اللہ نے

ان کے دلوں میں ایمان اور قوتِ بخشی ہے ان کو ایک روحِ عطا فرما کر

اپنی طرف سے اور داخل کرے گا وہ انہیں ایسی جنبتوں میں کہ بہرہ ہی ہیں

ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں۔ راضی ہوا اللہ

ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے۔ یہی ہیں اللہ کی جماعت۔

جان رکھو بلاشبہ اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے ﴿۲۲﴾

آيَاتُهَا ۲۳ (۵۹) سُورَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ (۱۰۱) دُرُوءَاتُهَا ۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

تسبیح کی ہے اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے

اور جو زمین میں ہے اور وہ غالب اور بڑی حکمت والا ہے ①

وہی ہے جس نے نکالا ان کو جنہوں نے کفر کیا

اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے پہلے ہی پتے میں۔

تمہیں گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے

کہ یقیناً انہیں سچالیں گی ان کی گڑھیاں اللہ سے

مگر آیا ان پر اللہ ایسے رخ سے جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا

اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب۔

نتیجہ یہ ہوا کہ وہ برباد کرنے لگے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں

اور برباد کروا رہے تھے (مومنوں کے ہاتھوں سے بھی۔

پس عبرت پکڑو لے آسکھیں رکھنے والو! ②

اور اگر نہ لکھ دی ہوتی اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی

تو ضرور عذاب دیتا وہ انہیں دنیا ہی میں اور ان کے لیے

آخرت میں تو ہے ہی دوزخ کا عذاب ③

یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ کی

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ

مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا

أَنْهُمْ مَا نَعَتْهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ

فَأْتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا

وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ

يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ

وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ②

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ③

وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَائِ

لَعَذَابَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ

فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ④

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ

وَرَسُولُهُ ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ

فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

مَا قَطَعْتُمْ مِمَّنْ لَبِنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا

قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ

وَلِيُخْرِجَ الْفَاسِقِينَ ۝

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ

مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ

عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ

يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۚ

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ

فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ

كُنِيَ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ

وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۚ

وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

فَانْتَهَوْا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ

اور اس کے رسول کی۔ اور جو بھی مخالفت کرتا ہے اللہ کی

توبہ بلاشبہ اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے میں ۝

نہیں کاٹا تم نے کوئی کھجور کا درخت یا اپنے دیا سے

قائم اس کی جڑوں پر تو یہ سب ہوا اللہ کے اذن سے

اور اس لیے ہوا تاکہ رسوا کرے اللہ نافرمانوں کو ۝

اور جو مال، پٹلے اللہ نے اپنے رسول کی طرف

ان سے لے کر تو وہ ایسے مال نہیں ہیں کہ دوڑائے ہوں تم نے

ان پر گھوڑے یا اونٹ بلکہ اللہ

تسلط عطا فرما دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے۔

اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے ۝

جو کچھ پٹلے اللہ اپنے رسول کی طرف بستیوں کے لوگوں سے

سو وہ ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا اور رسول کے رشتہ داروں کا

اور ہے یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے

تاکہ نہ کرتا رہے وہ گردش تمہارے مالداروں کے درمیان ہی۔

اور جو کچھ دے تمہیں رسول سوا سے لے لو

اور جس سے روک دے تم کو رسول،

پس رک جاؤ (اس سے)۔ اور ڈرو اللہ سے۔

بلاشبہ اللہ بہت سخت ہے سزا دینے میں ۝

(نیز وہ مال، ان مفلس مساجروں کے لیے ہے جو

أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
 يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
 وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ
 أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝۸
 وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ
 وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ
 مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ
 وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً
 مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ
 عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ
 وَمَنْ يُوقِ شَحْمَةَ نَفْسِهِ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝۹
 وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ
 يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
 وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
 بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا
 لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
 إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝۱۰
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

نکال باہر کیے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنی جائیدادوں سے
 جو تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کا اور اس کی خوشنودی
 اور مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی -
 یہی لوگ ہیں سچے ۝۸

اور یہ (ان لوگوں کے لیے بھی ہے) جو مہاجر تھے دارالہجرہ میں
 اور ایمان لاپچکے تھے مہاجرین کی آمد سے پہلے، محبت کرتے ہیں
 ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے آئے ان کے پاس
 اور نہیں پاتے اپنے دلوں میں کوئی حاجت تک بھی
 اس چیز کی جو انہیں دی جائے اور ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو
 اپنی ذات پر اگرچہ ہوں خود جا جتند -

اور جو بچالیے گئے اپنے دل کے لالچ سے
 سو وہی ہیں درحقیقت فلاح پانے والے ۝۹
 اور یہ ان کے لیے بھی ہے) جو آئیں گے ان کے بعد،
 دعا کریں گے (اس طرح): اے ہمارے رب! بخش دے تو ہمیں
 اور ہمارے ان بھائیوں کو جو سبقت لے گئے ہم پر
 ایمان میں اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں کوئی بغض
 ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں، اے ہمارے مالک!
 یقیناً تو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے ۝۱۰
 کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے

نَافِقُوا يَقُولُونَ

لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ

لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ

فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا ۚ وَإِن

قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ

يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝۱۱

لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ۚ

وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ ۚ

وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولَتَنَّ

الْأَدْبَارَ ۚ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ۝۱۲

لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ رَهَبَةً فِي صُدُورِهِمْ

مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ

لَا يَفْقَهُونَ ۝۱۳

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا

إِلَّا فِي قَرْيٍ مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ

بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ شَدِيدًا ۗ

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ۗ

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ۝۱۴

مناقت کی روش اختیار کی وہ کہتے ہیں

اپنے ان بھائیوں سے جو کافر ہیں

اہل کتاب میں سے کہ اگر تمہیں نکالا گیا

تو ہم بھی ضرور نکلیں گے تمہارے ساتھ اور بات نہ مانیں گے

تمہارے بارے میں کسی کی ہرگز۔ اور اگر

تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے جبکہ اللہ

گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ قطعاً جھوٹے ہیں ۝۱۱

اگر وہ نکالے گئے تو ہرگز نہ نکلیں گے یہ ان کے ساتھ

اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو ہرگز نہ مدد کریں گے یہ ان کی

اور اگر کہیں مدد کی انہوں نے ان کی تو ضرور پھیر جائیں گے

پیٹھ۔ پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے ۝۱۲

دراصل تمہارا خوف زیادہ سخت ہے ان کے دلوں میں

اللہ کے مقابلہ میں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو

بجھ بوجھ نہیں رکھتے ۝۱۳

نہیں جنگ کریں گے یہ کبھی تم سے اکٹھے

مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔

ان کی مخالفت آپس میں بڑی سخت ہے۔

تم خیال کرتے ہو انہیں اکٹھا مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔

یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل سے عاری ہیں ۝۱۴

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا
وَبَالَ أَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾
كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ
لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ ۖ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ
إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ
اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا

فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ

وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّامَتْ

لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ

فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ

أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ

ان لوگوں کی طرح جو ان سے تموڑی مدت پہلے چکھ چکے ہیں

مزا اپنے کیے کی اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب ﴿۱۵﴾

ان کی، مثال شیطان کی سی ہے جب وہ کہتا ہے

انسان سے کہ کفر کر پھر جب وہ کفر کر لیتا ہے تو کہتا ہے

کہ میں بری الذمہ ہوں تجھ سے، یقیناً میں ڈرتا ہوں

اللہ سے جو رب العالمین ہے ﴿۱۶﴾

سو ہو گا ان دونوں کا انجام یہ کہ وہ دونوں

جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے اس میں۔

اور یہی ہے سزا ظالموں کی ﴿۱۷﴾

اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے

اور چاہیے کہ دیکھے ہر شخص کہ کیا سامان آگے بھیجا ہے اس نے

کل کے لیے اور ڈرو اللہ سے۔ یقیناً اللہ

پوری طرح باخبر ہے تمہارے سب اعمال سے ﴿۱۸﴾

اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو بھول گئے اللہ کو

سو غافل کر دیا اللہ نے انہیں اپنے آپ سے۔

یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں ﴿۱۹﴾

کبھی یکساں نہیں ہو سکتے اہل دوزخ اور اہل جنت۔

اہل جنت ہی مراد پانے والے ہیں ﴿۲۰﴾

اگر کیں نازل کیا ہوتا ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر

لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا

مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ

نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ

لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ

عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۗ

هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿۲۲﴾

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ

إِلَّا هُوَ ۗ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ

السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُ

الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ

الْمُتَكَبِّرُ ۗ سُبْحَانَ اللَّهِ

عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۲۳﴾

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ

الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۗ

يُسَبِّحُ لَهُ مَا

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۴﴾

تو ضرور دیکھتے تم اسے کہ وہ دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے

اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں

بیان کرتے ہیں ہم انسانوں کے لیے

تاکہ وہ غور و فکر کریں ﴿۲۱﴾

وہ اللہ ہی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے

جاننے والا غائب و حاضر کا۔

وہی ہے بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ﴿۲۲﴾

وہ اللہ ہی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود

سوائے اس کے، بادشاہ حقیقی، نہایت مقدس،

سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان،

سب پر غالب، اپنا حکم بڑا نافذ کرنے والا

اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ

اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں ﴿۲۳﴾

وہ اللہ ہی ہے، تخلیق کا منصوبہ بنانے والا

(پھر اس کو نافذ کرنے والا) اور اس کے مطابق صورت گیری کرنے والا

اسی کے لیے ہیں تمام بہترین نام۔

تسبیح کر رہی ہے اس کی ہر وہ چیز جو

آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔

اور وہ ہے زبردست اور بڑی حکمت والا ﴿۲۴﴾

سُورَةُ الْمُحَيَّتَةِ مَدَنِيَّةٌ (۱۹۱) كُرْعَانُهَا ۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ بناؤ

میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست، پیٹگیں بٹھاتے ہو تم

ان کے ساتھ دوستی کی حالانکہ وہ انکار کر چکے ہیں ماننے سے

اس کو جو آیا ہے تمہارے پاس حق میں سے،

جلا وطن کرتے ہیں وہ رسول کو اور تمہیں

اس بنا پر کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا رب ہے۔

نہ بناؤ دوست ان کو اگر نکلے ہو تم جہاد کے لیے میرے راستے میں

اور تمہارا مقصد میری رضا جوئی ہے

تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ چھپا کر بھجیتے ہو تم انہیں دوستی کا پیغام

حالانکہ میں خوب جانتا ہوں وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو

اور وہ بھی جو تم علانیہ کرتے ہو۔ اور جو شخص کرے گا ایسا کام

تم میں سے تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے ①

اگر قابو پالیں وہ تم پر تو ہوں گے وہ تمہارے دشمن

اور چلائیں گے تم پر اپنے ہاتھ

اور اپنی زبانیں نقصان پہنچانے کے لیے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا

عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ

إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا

بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ۚ

يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ

أَنْ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ۚ

إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي

وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي

تُسْرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ ۚ

وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ

وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْهُ

مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ①

إِنْ يَتَّقُواكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً

وَإَيْبُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ

وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوءِ

وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٧﴾

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ

وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ

يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٨﴾

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ۗ

إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَّاءُ

مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ

مِنْ دُونِ اللَّهِ زَكَّرْنَا بِكُمْ وَبَدَأَ

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَاهُ

إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ

لَا اسْتَغْفِرْتَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ

لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا

وَالَيْكَ أَنْبَأْنَا

وَالَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٩﴾

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا

اور وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ ﴿۷﴾

نہ کام آئیں گی تمہارے تمہاری رشتہ داریاں

اور نہ تمہاری اولادیں، قیامت کے دن۔

(اور اس دن) فیصلہ کرے گا اللہ تمہارے درمیان۔

اور اللہ ہر اس چیز کو جو تم کر رہے ہو پوری طرح دیکھ رہا ہے ﴿۸﴾

بلاشبہ ہے تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ

ابراہیمؑ میں اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے،

جب کہا تھا انہوں نے اپنی قوم سے کہ ہم قطعی بیزار ہیں

تم سے اور ان سے جنہیں تم پوجتے ہو

اللہ کے سوا۔ انکار کرتے ہیں ہم تمہارا اور ہو گئی ہے

ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی

ہمیشہ کے لیے اِلَّا کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر جو یکتا ہے۔

رہ گیا قول ابراہیمؑ کا جو اس نے اپنے باپ سے کہا تھا

کہ میں ضرور استغفار کروں گا تیرے لیے اور نہیں اختیار رکھتا میں

تم کو بچانے کا اللہ سے ذرا بھی (اس سے مستثنیٰ ہے)۔

اے ہمارے رب! تجھ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا

اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا

اور تیرے ہی حضور پلٹنا ہے (ہمیں) ﴿۹﴾

اے ہمارے رب! نہ بنانا تو ہمیں آزمائش کافروں کے لیے

وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑤

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ

أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا

اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ⑥

عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ

مَوَدَّةً ط وَاللَّهُ قَدِيرٌ ط

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑦

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ

لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ

وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ

اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسَطُوْا

اِلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسَطِيْنَ ⑧

اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ

قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرِجُوْكُمْ

مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوْا

عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ⑨

اور ہمارے قصوروں سے درگزر فرمائے ہمارے مالک!

بے شک تو ہی ہے زبردست اور بڑی حکمت والا ⑤

یقیناً ہے تمہارے لیے انہی لوگوں کے طریقہ عمل میں

بہترین نمونہ ہر اس شخص کے لیے جو امیدوار ہو

اللہ کا اور روزِ آخر کا اور جس نے منہ موڑا (اس سے)

تو بے شک اللہ وہ ہے جو بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے ⑥

کچھ بعید نہیں کہ اللہ پیدا کر دے

تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو دشمن ہیں تمہارے ان میں سے

دوستی اور اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے۔

اور اللہ ہے بخشنے والا اور نہایت مہربان ⑦

نہیں منع کرتا تم کو اللہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے

نہیں جنگ کی تم سے دین کے معاملہ میں

اور نہیں نکالا تم کو تمہارے گھروں سے

اس بات سے کہ تم ان سے اچھا سلوک کرو اور انصاف کا برتاؤ کرو

ان کے ساتھ۔ بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو ⑧

البتہ منع کرتا ہے تم کو اللہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے

تمہارے ساتھ جنگ کی دین کے معاملہ میں اور نکالا تم کو

تمہارے گھروں سے اور مدد کی ایک دوسرے کی

تمہارے نکلنے میں اس سے کہ تم ان سے دوستی کرو۔

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ①
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ
مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۚ
اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ
فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ
لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ
وَأَتُوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا ۚ
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
إِذَا اتَّيَبْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ
وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا
مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ
مِمَّا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ
يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ①۰
وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ
إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ

اور جو ان سے دوستی کریں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں ①
اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو

جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں

ہجرت کر کے تو ان کی خوب جانچ پڑتال کر لو۔

اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ایمان کو۔

پس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان والی ہیں

تو نہ واپس کرو تم انہیں کافروں کی طرف۔

نہ وہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کے لیے۔

اور نہ وہ کافر مرد حلال ہیں ان عورتوں کے لیے۔

اور سے دو تم ان کافروں کو جو مہراہوں نے ادا کیے تھے۔

اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر اس میں کہ نکاح کرو تم ان سے

بشرطیکہ ادا کرو تم ان کو مہران کے۔

اور مت روکے رکھو (اپنی زوجیت میں) کافر بیویوں کو اور مانگ لو

جو (مہر) تم نے دیے تھے اور چاہیے کہ کافر بھی مانگ لیں

وہ مہر جو انہوں نے ادا کیے تھے۔ یہ اللہ کا حکم ہے

جس کے مطابق وہ فیصلہ کر رہا ہے تمہارے درمیان۔

اور اللہ ہے سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ①۰

اور اگر رہ جائے کچھ تمہاری بیویوں کے مہر میں سے

کافروں کی طرف پھر تمہیں موقع ہاتھ آ جائے

فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ

مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ⑪

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ

الْمُؤْمِنَةُ يُبَايِعُكَ

عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكَ

بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقَنَّ

وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ

وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ

بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ

وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ

فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ

لَهُنَّ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ

عَفُورٌ تَرَجِيمٌ ⑫

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّوَلَوْا

قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

قَدْ يَسُؤُوا مِنَ الْآخِرَةِ

كَمَا بَيَسَ الْكُفَّارُ

مَنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ⑬

تو بے دوان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئی تھیں،

اتنا مہر جو انہوں نے ادا کیا تھا (ان بیویوں کو)۔

اور دوسرے اللہ سے وہ اللہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو ⑪

اے نبی! جب آئیں تمہارے پاس

مومن عورتیں تم سے بیعت کرنے کے لیے

تو عہد کریں اس بات کا کہ نہ شرک کریں گی

اللہ کے ساتھ ذرا بھی اور نہ چوری کریں گی

اور نہ زنا کریں گی اور نہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو

اور نہ بانڈھیں گی کوئی ایسا بہتان جسے گھڑیں وہ خود

اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے آگے

اور نہ نافرمانی کریں گی وہ تمہاری کسی امر معروف (جائز حکم) میں

تو ان سے بیعت لے لو اور دعائے مغفرت کرو

ان کے لیے اللہ سے۔ بلاشبہ اللہ ہے

معاف فرمانے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ⑫

اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ دوست بناؤ

ان لوگوں کو غضب فرمایا ہے اللہ نے جن پر

اور جو مایوس ہو گئے ہیں آخرت سے،

اسی طرح جس طرح مایوس ہو چکے ہیں کافر

جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ⑬

سُورَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ (۱۰۹) كَوَاعِلُهَا ۱۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ

تسبیح کی ہے اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے

وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①

اور جو زمین میں ہے اور وہ ہے زبردست اور بڑی حکمت والا ①

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کیوں کہتے ہو

مَا لَا تَفْعَلُونَ ②

ایسی بات جو تم نہیں کرتے؟ ②

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا

سخت ناپسندیدہ حرکت ہے اللہ کے نزدیک یہ کہ تم کہو

مَا لَا تَفْعَلُونَ ③

وہ بات جو تم نہیں کرتے ③

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ

یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں

فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ

اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح گویا کہ وہ

بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ ④

سیسہ پلٹی ہوئی دیوار ہیں ④

وَلَاذٍ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ

اور (یاد کرو) جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے:

يَقَوْمِ لِمَ تُوذُونَ بِي

اے میری قوم کے لوگو! کیوں اذیت دیتے ہو تم مجھے

وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ

حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ بلاشبہ میں اللہ کا رسول ہوں

إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوا

تمہاری طرف لیکن جب انہوں نے کجی اختیار کی۔

أَضَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۗ

تو بیٹھ کر دئے اللہ نے ان کے دل۔

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ⑤

اور اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق لوگوں کو ⑤

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
يَبْنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا
بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي
مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ
فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ④
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى
عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُوَ يُدْعَى
إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑤
يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ
بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ
مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ
كَرِهَ الْكَافِرُونَ ⑥
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ⑦

اور جب کہا عیسیٰ بن مریم نے
لے بنی اسرائیل! یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں
تمہاری طرف تصدیق کرنے والا ہوں اس حصہ کا جو
مجھ سے پہلے موجود ہے تورات میں سے
اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا
میرے بعد اس کا نام احمد ہوگا۔
لیکن جب وہ آیا ان کے پاس کھل کھل نشانیاں لے کر
تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے ④
اور کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جو باندھے
اللہ پر جھوٹا بہتان حالانکہ اسے دعوت دی جا رہی ہو
اسلام کی۔ اور اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا
ایسے ظالم لوگوں کو ⑤
یہ چاہتے ہیں کہ بجھادیں اللہ کا نور
اپنے منہ کی پھونکوں سے۔ اور یہ فیصلہ ہے اللہ کا
کہ وہ پورا پھیل کر رہے گا اپنے نور کو خواہ
کتنا ہی ناگوار ہو کافروں کو ⑥
وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنا رسول ہدایت
اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے غالب کر دے،
سب ادیان پر خواہ کتنا ہی ناگوار ہو مشرکین کو ⑦

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ
 تُنَجِّيكُمْ مِنَ عَذَابِ إِلِيمٍ ⑩
 تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۗ
 ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑪
 يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ
 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ۗ
 ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑫
 وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۗ نَصْرٌ
 مِنَ اللَّهِ وَقِتَّةٌ قَرِيبٌ ۗ
 وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ ⑬
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ
 كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ
 مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۗ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ
 نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنْتَ طَائِفَةٌ
 مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرْتَ طَائِفَةٌ ۗ
 فَأَيُّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا
 عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَاصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ⑭

اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو
 بچائے تم کو دردناک عذاب سے؟ ⑩
 ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو
 اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے۔
 یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم جانو ⑪
 معاف فرمادے گا اللہ تمہارے گناہ اور داخل کرے گا تمہیں
 ایسی جنتوں میں کہ بہرہ ہی ہیں ان کے نیچے نہریں
 اور (عطا فرمائے گا) بہترین گھر، سدا بہار جنتوں میں
 یہی ہے بہت بڑی کامیابی ⑫
 اور وہ دوسری چیز (بھی تمہیں دے گا) جسے تم چاہتے ہو نصرت
 اللہ کی طرف سے اور عنقریب حاصل ہونے والی فتح۔
 اور اے نبی! بشارت دے دو اہل ایمان کو ⑬
 اے لوگو جو ایمان لائے ہو بنو اللہ کے مددگار
 جیسا کہ کہا تھا عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے
 کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف (بلانے میں)۔ کہا تھا حواریوں نے
 ہم ہیں اللہ کے مددگار پھر ایمان لے آیا ایک گروہ
 بنی اسرائیل میں سے اور انکار کر دیا (دوسرے) گروہ نے
 سو مدد کی ہم نے ایمان والوں کی
 ان کے دشمنوں کے مقابلے میں۔ سو ہو کر رہے وہی غالب ⑭

آيَاتُهَا ۱۱
سُورَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ (۱۱۰)
رُكُوعَاتُهَا ۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

تیسخ کر رہی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے
اور جو زمین میں ہے (اللہ جو) بادشاہ ہے نہایت مقدس،

زبردست اور بڑی حکمت والا ①

وہی ہے جس نے اٹھایا اُمیوں میں

ایک رسول خود انہی میں سے جو پڑھ کر سنا تا ہے ان کو

اللہ کی آیات اور ان کا تذکرہ نفس کرتا ہے

اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب اللہ کی اور سکھاتا ہے ان کو دانائی

اگرچہ تھے وہ اس سے پہلے

پڑے ہوئے کھلی گمراہی میں ②

اور اس رسول کی بعثت، ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے

جو انہی میں سے ہیں (اور) ابھی نہیں ملے آکر ان کے ساتھ۔

اور وہ ہے زبردست اور بڑی حکمت والا ③

یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ عطا کرتا ہے جسے چاہے۔

اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے ④

مثال ان لوگوں کی جنہیں حامل بنایا گیا تھا

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقَدُّوسِ

الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ①

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ

رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ

آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

وَأَن كَانُوا مِن قَبْلُ

لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ②

وَأَخْرَجْنَا

مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ط

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ③

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ط

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ④

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا

التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا

كَمَثَلِ الْخَمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ

كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑤

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ

أَنكُم أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ

مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَتُّوا الْمَوْتَ

إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑥

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا

بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيهِمْ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ⑦

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ

الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ

فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ

ثُمَّ تُرَدُّونَ

إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ

تورات کا مگر پورا نہ کیا انہوں نے اس کے اٹھانے کی ذمہ داری کو

اس گدھے کی سی ہے جو اٹھائے ہوئے ہو کتابیں۔

بہت بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے

جھٹلایا اللہ کی آیات کو۔

اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو ⑤

ان سے کہیے اے لوگو! جو

یہودی بن گئے ہو اگر تمہیں گھمنڈ ہے

کہ تم اللہ کے چہیتے ہو

دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر تو تمنا کرو موت کی،

اگر ہو تم سچے ⑥

اور ہرگز نہ تمنا کریں گے یہ موت کی کبھی بھی

بسبب ان کرتوتوں کے جو یہ کر چکے ہیں۔

اور اللہ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو ⑦

ان سے کہیے بلاشبہ وہ موت

جس سے بھاگ رہے ہو تم

وہ تو ضرور آکر رہے گی تمہارے پاس

پھر پیش کیے جاؤ گے تم

اس کے حضور جو جاننے والا ہے پوشیدہ

اور ظاہر کا پھر وہ بتائے گا تمہیں

کہ تم کیا کرتے رہے ہو؟ ⑧
 اے لوگو جو ایمان لائے ہو
 جب اذان دی جائے نماز کے لیے
 جمعہ کے دن تو دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف
 اور چھوڑ دو خرید و فروخت۔
 یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے
 اگر تم جانو ⑨
 پھر جب پوری ہو جائے نماز
 تو پھیل جاؤ زمین میں
 اور تلاش کرو اللہ کا فضل
 اور یاد کرتے رہو اللہ کو کثرت سے
 تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو ⑩
 اور جب دیکھتے ہیں تجارت
 یا کھیل تماشا تو پک جاتے ہیں
 اس کی طرف اور چھوڑ دیتے ہیں تمہیں کھڑا۔
 ان سے کہئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے
 وہ کہیں بہتر ہے کھیل تماشے سے
 اور تجارت سے اور اللہ
 سب سے بہتر رزق دینے والا ہے ⑪

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑧
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ
 مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
 وَذَرُوا الْبَيْعَ
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑨
 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
 فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
 وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
 وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ⑩
 وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً
 أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا
 إِلَيْهَا وَتَرَكَوْكَ قَائِمًا
 قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ
 خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ
 وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ
 خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ⑪

آيَاتُهَا ۱۱ سُوْرَةُ الْمُنْفِقُوْنَ مَدَنِیَّةٌ (۱۰۴)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

جب آتے ہیں تمہارے پاس (مے نبیؐ) منافق

تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ

ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں! اللہ جانتا ہے

کہ بلاشبہ تم اللہ کے رسول ہو اللہ گواہی دیتا ہے

کہ یقیناً یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں ①

بنا رکھا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال

اور اس طرح روکتے ہیں یہ اللہ کی راہ سے۔

یقیناً بہت ہی بری ہیں وہ حرکتیں جو یہ کر رہے ہیں ②

ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے کہ یہ (پہلے) ایمان لائے

پھر کفر کیا انہوں نے اس لیے مہر لگا دی اللہ نے

ان کے دلوں پر سو یہ (اب) کچھ نہیں سمجھتے ③

اور جب دیکھو تم انہیں تو بڑے اچھے لگیں گے تمہیں

ان کے جسم۔ اور اگر بات کریں تو تم سنتے رہ جاؤ ان کی باتیں۔

وہ آدمی نہیں ہیں بلکہ ایسے ہیں گویا کہ وہ

لکڑی کے کندے ہوں جو دیوار کے ساتھ چن دیے گئے ہوں۔

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ

قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ

لِرَسُولِ اللَّهِ م وَاللَّهُ يَعْلَمُ

إِنَّكَ لِرَسُولِهِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ

لِأَنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ ①

إِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً

فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ

لِأَنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ②

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا

ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ

عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ③

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ

أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ

كَأَنَّهُمْ

خُشْبٌ مِّنْ دَرَّةٍ

يَحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ط

هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرهُمْ ط

فَتَلَّهُمُ اللَّهُ وَإِنِّي يُؤْفِكُونَ ⑤

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا

يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ

لَوَا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ

يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ⑤

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ

لَهُمْ أَمْ لَمْ تُسْتَغْفِرْ

لَهُمْ ؕ كُنْ يَغْفِرَ

اللَّهُ لَهُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ⑥

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ

لَا تُنْفِقُوا عَلٰى مَنْ

عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ

حَتَّىٰ يَنْفَضُوا ۗ وَ لِلَّهِ

خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَلٰكِنَّ

الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ⑦

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا

سمجھے ہیں یہ ہر زور کی آواز کو اپنے ملاف -

یہی حقیقی دشمن ہیں لہذا تم ان سے بچ کر رہو۔

ان پر اللہ کی مار۔ یہ کدھڑے پھراٹے جا رہے ہیں ⑤

اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ

مغفرت کی دعا کریں تمہارے لیے اللہ کے رسولؐ

تو گھماتے ہیں اپنے سروں کو (مذاق اڑانے کے لیے) اور دیکھو تمہاری نہیں

کدوہ رک جاتے ہیں آنے سے بڑے گھمنڈ کے ساتھ ⑤

برابر ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کرو تم

ان کے لیے یا نہ کرو دعائے مغفرت تم

ان کے لیے بہرگز نہیں بخٹے گا

اللہ ان کو۔ بے شک اللہ

نہیں ہدایت دیتا فاسق لوگوں کو ⑥

یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں

مت خرچ کرو تم ان لوگوں پر جو

ساتھ ہیں رسول اللہ کے

تا کہ منتشر ہو جائیں وہ۔ حالانکہ اللہ ہی مالک ہے

زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا لیکن

یہ منافق نہیں سمجھتے ⑦

یہ کہتے ہیں اگر ہم واپس پہنچ جائیں

إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ

الْأَعْرَضُ مِنْهَا الْأَذَلَّ

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ

وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝۸

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا

لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ

وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۝

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝۹

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ

مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ

أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ

رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي

إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۚ فَاصْدَقْ

وَإَكُن مِّنَ الصّٰلِحِينَ ۝۱۰

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا

إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ

وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۱۱

مدینے میں تو ضرور نکال دے گا وہ

جو عزت والا ہے وہاں سے ذلیل کو۔

حالا کہ اللہ ہی کے لیے ہے عزت

اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے

لیکن منافق نہیں جانتے ۝۸

اے لوگو جو ایمان لائے ہو

نہ غافل کریں تمہیں تمہارے مال

اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے

اور جو کرے گا ایسا

سو ایسے ہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے ۝۹

اور خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہے ہم نے تم کو

اس سے پہلے کہ آجائے

تم میں سے کسی کی موت پھر وہ کہے:

اے میرے رب! کیوں نہ مہلت دے دی تو نے مجھے

تھوڑی سی تاکہ میں صدقہ دیتا

اور ہو جاتا شامل صالح لوگوں میں ۝۱۰

حالا کہ ہرگز نہیں مہلت دیتا اللہ کسی شخص کو

جب آجاتا ہے اس کا وقت مقرر۔

اور اللہ پوری طرح باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو ۝۱۱

سُورَةُ التَّغَابُنِ مَدَنِيَّةٌ (۱۰۸) آيَاتُهَا ۱۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

تیسخ کر رہی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے
اور جو زمین میں ہے، اسی کی ہے بادشاہی
اور اسی کے لیے ہے حمد۔

اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے ①

وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو پھر تم میں سے
کوئی کافر ہے اور کوئی مومن

اور اللہ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے ②

اسی نے پیدا فرمائے آسمان اور زمین برحق
اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی،

اور اسی کی طرف (آخر کار) تمہیں پلٹنا ہے ③

وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے
اور جانتا ہے اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔

اور اللہ تو جانتا ہے دلوں کا حال بھی ④

کیا نہیں پہنچی تمہیں خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا

اس سے پہلے۔ پھر چکھا انہوں نے مزا اپنے کیے کا

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ لَهُ الْمُلْكُ

وَلَهُ الْحَمْدُ ۗ

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ①

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ

كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۗ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ②

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ۗ

وَالِيهِ الْمَصِيرُ ③

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ ۗ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ④

الْمُرْيَاتِكُمْ نَبُؤَ الَّذِينَ كَفَرُوا

مِنْ قَبْلُ ۚ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑤

ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ

رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا

أَبَشْرٌ يَهْدُونَنَا

فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا

وَاسْتَعْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ

غَنِيٌّ حَمِيدٌ ⑥

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا

أَنْ لَّنْ يُبْعَثُوا

قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي

لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ

بِمَا عَمِلْتُمْ

وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ⑦

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَالتُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑧

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ

لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ

اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب ⑤

یہ انجام ان کا اس لیے ہوا کہ آتے رہے ان کے پاس

ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر لیکن انہوں نے کہا،

کیا ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا؟

اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا

اور اللہ بھی بے پروا ہو گیا ان سے اور اللہ تو ہے ہی

بے نیاز لا اِتَىٰ حَمْدًا ⑥

دعویٰ کرتے ہیں یہ کافر لوگ

کہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے وہ مرنے کے بعد۔

ان سے کیسے کیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی

تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا

کہ تم (دنیا میں) کیا کچھ کرتے رہے؟

اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے ⑦

سو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر

اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے۔

اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے ⑧

اس کا پتہ تمہیں چلے گا، اس دن جب اکٹھا کرے گا وہ تمہیں

حشر کے دن۔ یہی ہو گا دراصل ہارجیت کا دن

اور جو ایمان لایا اللہ پر اور کیسے اس نے

صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ

وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑩

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا

وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑪

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ

يَهْدِ قَلْبَهُ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑫

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا

الْبَلْغُ الْمُبِينُ ⑬

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑭

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ

عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

نیک عمل جھاڑ دے گا اللہ اس کے گناہ

اور داخل کرے گا اسے ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہوں گی

ان کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ۔

یہی ہے بڑی کامیابی ⑩

اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو۔

یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، ہمیشہ رہیں گے یہ اس میں۔

اور یہ بہت برا ٹھکانا ہے ⑪

نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے۔

اور جو ایمان لے آتا ہے اللہ پر

ہدایت بخشتا ہے اللہ اس کے دل کو۔

اور اللہ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے ⑫

اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی

لیکن اگر تم منہ موڑتے ہو تو بس، ہے ہمارے رسول پر

پہنچا دینا (حق کا) واضح طور پر ⑬

اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔

اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں اہل ایمان ⑭

اے لوگو جو ایمان لائے ہو

یقیناً تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے کچھ ایسے ہیں

جو دشمن ہیں تمہارے سو ہوشیار رہو تم ان سے

وَمَا تَعَفُّوْا وَتَصْفَحُوْا

وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۳﴾

اِنَّمَّا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ

فِتْنَةٌ وَّاللّٰهُ

عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۵﴾

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا

اَسْتَطَعْتُمْ وَاَسْمَعُوْا

وَاطِيعُوْا وَاَنْفِقُوْا

خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ ؕ

وَمَنْ يُّوقْ شَيْئًا نَفْسِهٖ

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۶﴾

اِنَّ تَقْرٰضُوا اللّٰهَ

قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفُهٗ

لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ

وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ

حَلِيْمٌ ﴿۱۷﴾

عِلْمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ

الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿۱۸﴾

اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو

اور بخش دو تو بلاشبہ اللہ ہے

بہت معاف کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ﴿۱۳﴾

حقیقت یہ ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد

تو ایک آزمائش ہے۔ اور اللہ وہ ہے

جس کے پاس ہے اجر عظیم ﴿۱۵﴾

سو ڈرتے رہو اللہ سے جہاں تک

تمہارے بس میں ہو اور سنو

اور اطاعت کرو اور خرچ کرو

(یہ امور) بہتر ہیں تمہارے حق میں۔

اور جو بچا لے گئے اپنے دل کے لالچ سے

سو وہی ہیں درحقیقت فلاح پانے والے ﴿۱۶﴾

اگر قرض دو تم اللہ کو

قرضِ حسنہ تو وہ اسے بڑھاتا چلا جائے گا۔

تمہارے لیے اور بخش دے گا تمہارے گناہ)۔

اور اللہ ہے بڑا قدر دان

اور بردبار ﴿۱۷﴾

جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا،

زبردست اور بڑی حکمت والا ﴿۱۸﴾

سُورَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ (۹۹) يَا أَيُّهَا ۱۲ رُكُوعَاتُهَا ۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
 فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
 لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
 وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
 بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ
 لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ
 بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ①
 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
 فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
 أَوْ فَارِقُوهُنَّ
 بِمَعْرُوفٍ ۖ وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ
 مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ

اے نبی! جب طلاق دو تم عورتوں کو
 تو طلاق دو تم انہیں اس طرح کہ وہ عدت شروع کر سکیں
 اور ٹھیک ٹھیک شمار کرو عدت کے زمانہ کا۔
 اور ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے۔
 اور نہ نکالو تم انہیں ان کے گھروں سے
 اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ آتیں وہ
 کسی کھلی بدکاری کا۔ اور یہ اللہ کی (مقرر کردہ) حدیں ہیں۔
 اور جو تجاوز کرے گا اللہ کی مقرر کردہ حدود سے
 تو درحقیقت وہ ظلم کرے گا اپنی ہی جان پر۔
 نہیں جانتے تم شاید کہ اللہ پیدا کر دے
 اس کے بعد بھی (موافقت کی) کوئی صورت ①
 پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کے خاتمہ پر
 پھر روک لو انہیں بھلے طریقے سے یا جدا کر دو انہیں
 بھلے طریقے سے اور گواہ بنا لو دو عادل اشخاص کو
 اپنوں میں سے اور (اے مسلمانو!) ٹھیک ٹھیک دو گواہی

لِلَّهِ ۚ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَمَنْ يَتَّقِ

اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ

لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ

بِالْعَمَلِ آمِرٌ ۚ قَدْ جَعَلَ

اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۖ

وَالَّذِي يَدِينُ مِنَ الْمُحْيِيْنَ مِنَ نِسَائِكُمْ

إِنْ أَرْتَبْتُمْ

فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي

لَمْ يَحْضَنْ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ

أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ

لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۖ

ذَلِكَ أَمْرٌ اللَّهُ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ

سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ۖ

اللہ کے لیے۔ یہ ہے وہ نصیحت جو کی جا رہی ہے

ہر اس شخص کو جو رکھتا ہے ایمان

اللہ پر اور روزِ آخر پر اور جو شخص ڈرتا ہے گا

اللہ سے پیدا کر دے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کی کوئی راہ ۖ

اور رزق دے گا اسے ایسے طریقے سے جہر

اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ اور جو بھروسہ کرے اللہ پر

سو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ بلاشبہ اللہ

پورا کر کے رہتا ہے اپنا ارادہ۔ بے شک مقرر کر رکھی ہے

اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر ۖ

اور تمہاری وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہوں حیض آنے سے

اگر ان کی عدت کی تعیین میں تمہیں کسی قسم کا شبہ لاحق ہو جائے

تو ان کی عدت تین ماہ ہے اور ان کی بھی جن کو ابھی

حیض آیا ہی نہ ہو۔ اور حاملہ عورتیں،

ان کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لیں۔

اور جو شخص ڈرے اللہ سے، پیدا کر دیتا ہے وہ

اس کے لیے اس کے معاملہ میں آسانی ۖ

یہ اللہ کا حکم ہے جو نازل فرما رہا ہے وہ تمہاری طرف۔

اور جو ڈرے گا اللہ سے تو وہ دور کر دے گا اس سے

اس کی برائیوں کو اور عطا فرمائے گا اس کو بڑا اجر ۖ

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ
مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ
وَأْتِمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ
فَسَتُرَضِعُ لَهَا أُخْرَىٰ ۙ

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ
وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۙ
وَكَأَيِّن مِّن قَرِيْبَةٍ عَنَتْ
عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ
فَحَاسِبْنَهَا حَسَابًا شَدِيدًا
وَعَدَّبْنَهَا عَذَابًا نُكْرًا ۙ
فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا

رکھو تم ان (مطلقہ) عورتوں کو اسی جگہ جہاں تم خود رہتے ہو
جیسی جگہ تمہیں میسر ہو اور نہ سزاؤ تم
تنگ کرنے کے لیے انہیں۔ اور اگر ہوں وہ
حاملہ تو خرچ کرتے رہو تم ان پر

یہاں تک کہ ان کے ہاں بچہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ دودھ پلائیں
تمہارے لیے (بچے کو) تو دودھ انہیں ان کی اجرت۔
اور (اجرت کا) معاملہ طے کر دو شوہر سے آپس میں
بھلے طریقے سے اور اگر تم نے ایک دوسرے کو تنگ کیا
تو دودھ پلانے اس کی خاطر دوسری عورت ⑥

اور چاہیے کہ خرچ کرے خوشحال شخص اپنی گنجائش کے مطابق۔
اور جس شخص کو کم دیا گیا ہو رزق تو وہ خرچ کرے
اس میں سے جو دیا ہے اسے اللہ نے۔ نہیں ذمہ داری (کا بوجھ ڈالتا
اللہ کسی جان پر مگر اسی قدر جتنا اس نے دیا ہے اسے۔

امید ہے کہ اللہ عطا فرمادے تنگی کے بعد فراخی ⑦
اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے سرکشی کی
اپنے رب اور اس کے رسولوں کے احکام سے
تو محاسبہ کیا ہم نے ان کا سخت ترین محاسبہ
اور سزا دی انہیں بدترین سزا ⑧

سو چکھی انہوں نے سزا اپنے کیے کی

وَكَانَ عَاقِبَتُهُ أَمْرَهَا خُسْرًا ①

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۶

فَا تَقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ۷

الَّذِينَ آمَنُوا تَشَاقَدُوا ۸

إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ②

رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ

مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۹

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ

صَالِحًا يَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

فِيهَا أَبَدًا ۱۰ قَدْ أَحْسَنَ

اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ③

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ

وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۱۱ يَتَنَزَّلُ

الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۱۲

وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ④

اور ہوا انجام ان کے معاملہ کا بدترین گھانا ①

مہیا کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے (آخرت میں) سخت ترین عذاب۔

سو ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل والو،

جو ایمان لائے ہو۔ یقیناً اللہ نے نازل کر دی ہے

تمہاری طرف ایک نصیحت ②

(اوند بھیجا ہے) ایک ایسا رسول جو پڑھ کر سنا تا ہے تمہیں اللہ کی آیات

جو صاف صاف ہدایت دینے والی ہیں تاکہ نکلے اللہ ان لوگوں کو جو

ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل،

تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔

اور جو ایمان لائے گا اللہ پر اور کرے گا

نیک عمل، داخل کرے گا اسے اللہ ایسی جنتوں میں

کہ بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ

ان میں ہمیشہ ہمیشہ۔ بہترین رکھا ہے

اللہ نے ایسے شخص کے لیے رزق ③

اللہ وہ ہے جس نے پیدا فرمائے سات آسمان

اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند۔ نازل ہوتا رہتا ہے

اس کا حکم ان کے درمیان یہ بات تمہیں بتائی جا رہی ہے تاکہ جان لو تم

کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے

اور بلاشبہ اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا اپنے علم سے ④

سُورَةُ التَّحْرِيمِ مَدَنِيَّةٌ (۱۰۷) آيَاتُهَا ۱۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ

اللَّهُ لَكَ، تَبْتَغِي مَرْضَاتَ

أَزْوَاجِكَ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱﴾

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ

تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ، وَاللَّهُ مُوَلِّكُكُمْ

وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۲﴾

وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ

حَدِيثًا، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ

وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ

بَعْضَهُ، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ

فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ

قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا

قَالَ نَبَّأَنِي

الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۳﴾

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ

اے نبی! کیوں حرام کرتے ہو تم وہ چیز جو حلال کی ہے

اللہ نے تمہارے لیے۔ (کیا، چاہتے ہو تم (اس طرح) خوشنودی

اپنی بیویوں کی؟ اور اللہ ہے بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ﴿۱﴾

یقیناً مقرر کر دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے

اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ اور اللہ ہی تمہارا آقا ہے

اور وہ ہے سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ﴿۲﴾

اور جب رازدارانہ انداز میں بتائی نبیؐ نے اپنی کسی بیوی کو

ایک بات پھر جب بتادی اس نے وہ بات (کسی دوسری کو)

اور ظاہر کر دیا اسے اللہ نے اپنے نبیؐ پر تو اطلاع دی نبیؐ نے

اس کی کسی حد تک اور درگزر کیا ایک حد تک

پھر جب خبر دی اس نے بات کی اپنی اسی بیوی کو

تو وہ کہنے لگی کس نے خبر دی ہے آپ کو اس بات کی؟

نبیؐ نے فرمایا مجھے خبر دی ہے اس کی

اس نے جو سب کچھ جانتے والا اور پوری طرح باخبر ہے ﴿۳﴾

اگر توبہ کرو تم دونوں اللہ کے حضور (توبہ بہتر ہے تمہارے لیے)

فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۝

اس لیے کہ ہٹ گئے تھے سیدھی راہ سے تمہارے دل

وَإِنْ تَطَهَّرَ عَلَيْهِ ۝

اور اگر ایک کر لیا تم نے نبی کے مقابلے میں

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ ۝

تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولیٰ ہے اور جبریلؑ

وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَالْمَلَائِكَةُ ۝

اور تمام صالح اہل ایمان اور ملائکہ

بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۝

اس کے بعد اس کے مددگار ہیں ۝

عَسَى رَبُّهُ أَنْ طَلَّقْتُنَّ

بعید نہیں کہ اگر طلاق دے دے وہ تمہیں تو اس کا رب

أَنْ يُبَدِّلَ لَهَا أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ

بلے میں دے اسے ایسی بیویاں جو بہتر ہوں تم سے۔

مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَنِيتٍ

مسلمان، مومن، اطاعت شعار

تَسْبِطٍ عِبَادٍ سَبِيحَةٍ

توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار اور روزہ رکھنے والیاں

تَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ۝

خواہ شوہر دیدہ ہوں یا کنواریاں ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو

وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ

اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان

وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

اور پتھر ہوں گے جن پر مقرر ہیں ایسے فرشتے جو

غَلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ

نہایت تند خو اور سخت گیر ہیں، جو کبھی نافرمانی نہیں کرتے

اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ

اللہ کی اس حکم کے بجالانے میں جو وہ انہیں دے

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝

اور جو کر گزرتے ہیں ہر وہ کام جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُوا الْيَوْمَ ۝

اے کفر کرنے والو! عُدت نہ تراشو آج۔

إِنَّمَا تُجْزَوْنَ

صرف دیا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے تم کو

مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

جیسے عمل کرتے رہے ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا

إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ

سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ

رَبَّنَا آتِنَا نُورَنَا

وَاعْفِرْ لَنَا، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑧

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ

وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلِظْ عَلَيْهِمْ

وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ

وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑨

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ

كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ

كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ

مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ

لے لوگو جو ایمان لائے ہو توبہ کرو

اللہ کے حضور خالص توبہ۔

کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب دور فرما دے تم سے

تمہاری برائیاں اور داخل کرے تمہیں ایسی جنتوں میں

کہ بہرہی ہیں جن کے نیچے نہریں

اس دن جب نہ رسوا کرے گا اللہ نبی کو

اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ۔

ان کا نور دوڑ رہا ہو گا ان کے آگے آگے

اور ان کے دائیں جانب اور وہ کہہ رہے ہوں گے

اے ہمارے رب! مکمل کر دے ہمارے لیے ہمارا نور

اور درگزر فرما ہم سے۔ یقیناً تو ہر بات پر پوری قدرت رکھتا ہے ⑧

اے نبی! جہاد کرو کافروں سے

اور منافقوں سے اور سختی سے پیش آؤ ان کے ساتھ۔

اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔

اور بہت ہی برا ہے وہ ٹھکانا ⑨

مثال پیش کرتا ہے اللہ ان لوگوں کے بارے میں جو

کافر ہیں، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی۔

تھیں یہ دونوں دو ایسے بندوں کی زوجیت میں

جو تھے ہمارے صالح بندوں میں سے

فَخَانَتْهُمَا

فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا

مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

وَقِيلَ ادْخُلَا

النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿۱۰﴾

وَضَرَبَ اللَّهُ

مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا

امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ م

اِذْ قَالَتْ رَبِّ

اِبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا

فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي

مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ

وَ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۱﴾

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ

الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا

فَنَفَخْنَا فِيهِ

مِن رُّوحِنَا وَصَدَقْتِ

بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ

وَكَانَ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ﴿۱۲﴾

تو خیانت کی ان دونوں نے اپنے شوہروں سے

سو نہ کام آسکے یہ دونوں ان کو

اللہ سے بچانے میں ذرا بھی

اور کہا گیا ان سے کہ داخل ہو جاؤ تم دونوں

جہنم میں - دوسرے جلنے والوں کے ساتھ ﴿۱۰﴾

اور پیش کرتا ہے اللہ

مثال اہل ایمان کے بائے میں

فرعون کی بیوی کی -

جب اس نے کہا تھا کہ اے میرے رب!

بنادے تو میرے لیے اپنے پاس ایک گھر

جنت میں اور نجات دے تو مجھے

فرعون سے اور اس کے (برے) عملوں سے

اور نجات دے تو مجھے اس ظالم قوم سے ﴿۱۱﴾

اور (دوسری مثال) مریم بنت عمران کی ہے

جس نے حفاظت کی تھی اپنی شرمگاہ کی

پھر پھونک دی ہم نے اس کے اندر

اپنی طرف سے روح اور تصدیق کی اس نے

اپنے رب کے ارشادات کی اور اس کی کتابوں کی

اور تھی وہ اطاعت شعاروں میں سے ﴿۱۲﴾

منزل،

وقف لازم

۲۰۹